

# Jer

## Chapter 30

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 הַדְּבָרִים אֲשֶׁר הָיָה אֵל-יְרֵמְיָהוּ מֵאֵת יְהוָה לְאמֹר:  
کلام جو آہا پاس یرمیاہ کے یہوواہ سے کہتے ہوئے  
H1697 H1961 H0413 H3414 H0854 H3068 H0559

ہوا، نازل پر یرمیاہ کلام کا رب

2 כֹּה־נָאמַר יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל לְאמֹר: כֹּתֵב-לִי לְךָ אֵת כָּל-הַדְּבָרִים אֲשֶׁר-יוֹנִים  
یوں فرماتا ہے یہوواہ خدا اسرائیل کا کہتے ہوئے لکھ اپنے لیے تمام باتیں جو  
H3541 H0559 H3068 H0430 H3478 H0559 H3789 H0853 H3605 H1697

דְּבָרָיו: אֵל-סֵפֶר:  
کہا میں نے تجھ سے میں کتاب  
H1696 H0413 H0413

کرا، بند قلم میں صورت کی کتاب انہیں کئے نازل پر تجھ نے میں پیغام بھی جو کہ ہے فرماتا خدا کا اسرائیل

3 כִּי הִנֵּה יָמִים בָּאִים נָא-יְהוָה יֹשְׁבְתֵי אֶת-שְׁבוֹת עַמִּי יִשְׂרָאֵל  
کیونکہ دیکھو دن آئے والے ہیں فرماتا ہے یہوواہ اور لوٹاؤں گا میں کو قیدی قوم اپنی اسرائیل  
H2009 H3117 H0935 H5002 H3068 H7725 H0853 H7622 H3478

יְהוּדָה וְיְהוּדָה אֲמַר יְהוָה אֵל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר-נָתַתִּי לָאֲבוֹתָם  
اور یہوداہ فرماتا ہے یہوواہ اور لوٹاؤں گا انہیں کی طرف زمین جو دی میں نے باپ دادا کو ان کے  
H3063 H0559 H3068 H7725 H0413 H0776 H5414 H0001

וַיִּרְשׁוּהָ: פ  
اور میراث میں لیں گے وہ اسے  
H3423

دادا باپ کے ان نے میں جو گا لاؤں واپس میں ملک اُس کے کر بحال کو یہوداہ اور اسرائیل قوم اپنی میں جب ہے والا آئے وقت وہ کہ ہے فرماتا رب کیونکہ تھا۔

4 וְאֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֵל-יִשְׂרָאֵל וְאֵל-יְהוּדָה:  
اور یہ باتیں جو کہا یہوواہ نے کے بارے میں اسرائیل اور کے بارے میں یہوداہ  
H0428 H1697 H1696 H3068 H0413 H3478 H0413 H3063

ہیں۔ فرمان کے رب میں بارے کے یہوداہ اور اسرائیل یہ

5 כִּי-כֹה אָמַר יְהוָה קוֹל חֲרָדָה שָׁמְעֵנוּ פֶחַד וְאִין שְׁלוֹם:  
کیونکہ یوں فرماتا ہے یہوواہ آواز لرزش کی سنی ہم نے خوف اور نہیں سلامتی  
H3541 H0559 H3068 H2731 H8085 H6343 H0369 H7965

ہے۔ بوٹی پھیلی دہشت ہی دہشت طرف چاروں بلکہ نہیں تک نشان و نام کا امن ہیں۔ ربی دے سنائی چیخیں زدہ خوف ہے، فرماتا

6 שְׂאֵלוּ-יֹעֵץ נָא וְרָאוּ אִם-יֵלֵךְ זָכָר מְדוּעָה רְאִיתִי כָל-יָדָר יָדָיו  
پوچھو ذرا اور دیکھو اگر جنتا ہے مرد کیوں سنی ہم نے خوف اور نہیں سلامتی  
H7592 H4994 H7200 H3205 H2145 H4069 H7200 H3605 H1397 H3027

עַל-פִּי קָמַר-אִם-כִּי חָלְצִינוּ כִּי-לִדְהָ וְנַחֲפָכֻהּ כָּל-פָּנִים לִי-קָוִן:  
پر کمر اس کی جیسے جنتے والی اور پیلے پڑ گئے سب چہرے زردی میں  
H2504 H3205 H2015 H3605 H6440 H3420

گیا پڑ فق رنگ کا ایک ہر ہیں؟ رہے تڑپ طرح کی عورتوں مبتلا میں زہ درد کر رکھ پر کمر ہاتھ اپنے کیوں مرد تمام پھر تو ہے؟ سکتا دے جنم بچے مرد کیا ہے۔

7	הוּי	כִּי	גְדוֹל	הַיּוֹם	תְּהוּא	מֵאִיִן	כְּמֹהוּ	וְעַתָּה	צָרָה	הִיא
	افسوس	کیونکہ	عظیم	دن ہے	وہ	جیسا-نہیں	کوئی-اس-جیسا	اور-وقت	مصیبت-کا	ہے-یہ
	<a href="#">H1945</a>			<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H3644</a>	<a href="#">H6256</a>		<a href="#">H1931</a>

لְיַעֲקֹב: اور-اس سے  
 וּמִמְנַה: بچایا-جائے-گا-وہ  
[H3290](#) [H3467](#)

گی۔ ملے رہائی اُسے آخرکار لیکن گی، آئے پیش مصیبت بڑی کو اولاد کی یعقوب گا۔ بو نہیں کوئی جیسا اُس گا! بو ناک بول کتنا دن وہ افسوس!

8	וְהָיָה	בַּיּוֹם	הַהוּא	וְנָאֵם	יְהוָה	צְבָאוֹת	אֲשֶׁכֶּר	עָלוּ	מֵעַל	צְוֹאֲרָךְ
	اور-بوگا	دن-میں	اس	فرماتا-ہے	یہوواہ	صہابوت	توڑوں-گا-میں	جوا-اس-کا	سے	گردن-تیری
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H7665</a>	<a href="#">H5923</a>		

וּמוֹסְרוֹתֶיךָ: اور-بندھن-تیرے  
 אֲנַתְּךָ: توڑ-دوں-گا-میں  
 וְלֹא-: اور-نہیں  
 יַעֲבֹדוּ-: غلامی-کریں-گے  
 בּוֹ: اس-کی  
 עוֹד: پھر  
 זְרִים: اجنبی  
[H4147](#) [H5423](#) [H3808](#) [H5647](#) [H5750](#)

گے رہیں نہیں غلام کے غیرملکیوں وہ تب گا۔ ڈالوں توڑ کو زنجیروں کی اُن اور جوئے رکھے پر گردن کی اُن میں دن اُس ہے، فرماتا رب

9	וְעָבְדוּ	אֶת	יְהוָה	אֱלֹהֵיהֶם	וְאֵת	דָּוִד	מֶלְכָם	אֲשֶׁר	אֲקִים
	اور-خدمت-کریں-گے	کی	یہوواہ	خدا-اپنے	اور-کی	داؤد	بادشاہ-اپنے	جسے	کھڑا-کروں-گا-میں
	<a href="#">H5647</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1732</a>	<a href="#">H4428</a>		

לָהֶם: ان-کے-لیے  
[H1992](#)

گا۔ کروں مقرر پر اُن کے کر برپا میں جسے گے کریں خدمت کی بادشاہ اُس کے نسل کی داؤد اور خدا اپنے رب بلکہ

10	וְאֵתָה	אֶל-	תִּירָא	עֲבָדִי	יַעֲקֹב	נָאֵם-	יְהוָה	וְאֶל-	תַּחַת	יִשְׂרָאֵל	כִּי	הַנְּבִי
	اور-تو	نہ	ڈر	بندے-میرے	یعقوب	فرماتا-ہے	یہوواہ	اور-نہ	گھبرا	اسرائیل	کیونکہ	دیکھو-میں
	<a href="#">H0408</a>		<a href="#">H3372</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H3290</a>	<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H2865</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H2009</a>

מוֹשִׁיעַךָ: بچانے-والا-ہوں-تجھے  
 מִרְחוֹק: دور-سے  
 וְאֵת: اور-کو  
 זְרַעְךָ: نسل-تیری  
 מֵאֶרֶץ: سرزمین-سے  
 שְׂבִים: قید-ان-کی  
 וְשָׁב: اور-لوئے-گا  
 יַעֲקֹב: یعقوب  
 וְשָׁכַם: اور-چین-پائے-گا  
[H3467](#) [H7350](#) [H0853](#) [H2233](#) [H0776](#) [H7725](#) [H3290](#) [H8252](#)

וְשָׁאֲנָן: اور-آرام-کرے-گا  
 וְאִין: اور-نہیں  
 מִחֲרִיד: ڈرانے-والا  
[H7599](#) [H0369](#) [H2729](#)

جلاوطنی کو اولاد تیری اور سے علاقوں دُور دراز تجھے مَیں دیکھ، کھا! مت دبشت اسرائیل، اے ڈرا! مت خادم، میرے یعقوب اے، فرماتا رب چنانچہ  
 گا۔ بو نہیں کوئی والا کرنے پریشان اُسے اور گا، گزارے زندگی سے سکون کر آ واپس یعقوب گا۔ اُوں لے واپس کر چھڑا سے

11	כִּי-	אֲתָךְ	אֲנִי	נָאֵם-	יְהוָה	לְהוֹשִׁיעַךָ	כִּי	אֲעִשֶׂה	כָּלָה	בְּכָל-
	کیونکہ	ساتھ-تیرے	ہوں-میں	فرماتا-ہے	یہوواہ	بچانے-کے-لیے-تجھے	کیونکہ	کروں-گا-میں	فنا	تمام-کو
		<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3467</a>		<a href="#">H3617</a>	<a href="#">H3605</a>	

וְהַגּוֹיִם: قوموں  
 אֲשֶׁר: جہاں  
 הִפְצוֹתֶיךָ: بکھیر-دیا-میں-نے-تجھے  
 נָשָׁם: وہاں  
 אֲךָ: لیکن  
 אֲתָךְ: تجھے  
 לֹא-: نہیں  
 אֲעִשֶׂה: کروں-گا-میں  
 כָּלָה: فنا  
[H8033](#) [H0389](#) [H0853](#) [H3808](#) [H3617](#)

וְיִסְרְלוֹךָ: اور-سزا-دوں-گا-تجھے  
 לְמִנְשָׁפָט: انصاف-سے  
 וְנָקָה: اور-چھوڑوں-گا  
 לֹא: نہیں  
 אֲנַקְדָּךְ: بے-سزا-تجھے  
[H3256](#) [H4941](#) [H5352](#) [H3808](#) [H5352](#)

کر منتشر تجھے نے میں میں جن گا دوں کر نابود و نیست کو قوموں تمام اُن میں گا۔ بچاؤں تجھے ہی میں ہوں، ساتھ تیرے میں ہے، فرماتا رب کیونکہ  
 نہیں بغیر دیئے سزا تجھے میں کیونکہ گا، کروں تنبیہ تیری تک حد مناسب میں البتہ گا۔ مٹاؤں نہیں سے بستی صفحہ طرح اس میں تجھے لیکن ہے، دیا  
 سکتا۔ چھوڑ

12	כי	כה	אמר	יהוה	אנוש	לשברך	נחלה	מכתך:
	کیونکہ	یوں	فرماتا ہے	یہوواہ	لاعلاج	زخم-تیرا	مہلک	چوٹ-تیری
	<a href="#">H3541</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0605</a>	<a href="#">H7667</a>	<a href="#">H4347</a>		

سکتی۔ نہیں ہی بھر چوٹ تیری ہے، لاعلاج زخم [تیرا ہے، فرماتا رب کیونکہ

13	אין	הן	דינך	למזור	רפאות	תעלה	אין	לך:
	نہیں	کوئی	مقدمہ-تیرا	مرہم-کے-لیے	دوائیں	شفا-کی	نہیں	تیرے-لیے
	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H1777</a>	<a href="#">H1779</a>	<a href="#">H4205</a>	<a href="#">H7499</a>	<a href="#">H0369</a>		

نہیں! ہی ممکن شفا تیری اور معالجہ کا پھوڑوں تیرے کرے، بات میں حق تیرے جو بے نہیں کوئی

14	כל-	מאתביןך	שכחוךך	אותך	לא	ידרשו	כי	מוכת	אויב	חכיתוךך
	تمام	عاشق-تیرے	بھول-گئے-تجھے	تجھے	نہیں	ڈھونڈتے-وہ	کیونکہ	ضرب	دشمن-کی	ماری-میں-نے-تجھے
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0157</a>	<a href="#">H7911</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1875</a>		<a href="#">H4347</a>	<a href="#">H0341</a>	<a href="#">H5221</a>

מוסר	אכזרי	על	רב	עונך	עצמו	חטאתוךך:
سزا	ظالم-کی	پر	کثرت	گناہ-تیرے	بڑھ-گئے	گناہ-تیرے
<a href="#">H4148</a>	<a href="#">H0394</a>		<a href="#">H7230</a>	<a href="#">H5771</a>		

نے میں لئے اسی ہیں۔ بوئے سرزد گناہ بے شمار سے تجھ ہے، سنگین بہت قصور تیرا کرتے۔ نہیں ہی پروا تیری اور ہیں گئے بھول تجھے عاشق تمام تیرے ہے۔ دی تنبیہ طرح کی ظالم مارا، طرح کی دشمن تجھے

15	מה-	תועך	על-	שברך	אנוש	מכאבך	ועל	רב	עונך	עצמו	חטאתוךך
	کیا	چلاتی-ہے-تو	پر	زخم-اپنے	لاعلاج	درد-تیرا	پر	کثرت	گناہ-تیرے	بڑھ-گئے	گناہ-تیرے
	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H2199</a>		<a href="#">H7667</a>	<a href="#">H0605</a>	<a href="#">H4341</a>		<a href="#">H7230</a>	<a href="#">H5771</a>		

עשיתי	אלה	לך:
کیا-میں-نے	یہ	تجھے
	<a href="#">H0428</a>	

کی گناہوں متعدد اور قصور سنگین تیرے نے ہی میں یہ ہے؟ چیختا کیوں لئے کے مدد تو ہے ربا ہو محسوس درد لاعلاج اور بے گنی لگ چوٹ جب اب ہے۔ کیا ساتھ تیرے سے وجہ

16	לכן	כל-	אכלוךך	יאכלו	וכל-	צרךך	כלם	בשבי	יגבו	יהיו
	اس-لیے	تمام	کھانے-والے-تیرے	کھائے-جائیں-گے	اور-تمام	دشمن-تیرے	سب	قید-میں	جائیں-گے	اور-ہوں-گے
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H1961</a>	

שאסוךך	למשטה	וכל-	בוזוךך	אתן	לכו:
لوٹنے-والے-تیرے	لوٹ-کے-لیے	اور-تمام	چھیننے-والے-تیرے	دوں-گا-میں	چھین-کے-لیے
<a href="#">H7601</a>	<a href="#">H4933</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0962</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0957</a>

نے جنہوں گا، جائے لوٹا بھی انہیں لیا لوٹ تجھے نے جنہوں گے۔ جائیں ہو جلاوطن دشمن تمام تیرے گا۔ جائے کیا بڑب بھی انہیں کریں بڑب تجھے جو لیکن گا۔ [جائے کیا غارت بھی انہیں کیا غارت تجھے

17	כי	אעלה	ארכה	לך	וממכותך	ארפאך	נאם-	יהוה	כי
کیونکہ	اٹھاؤں-گا-میں	شفا	تیرے-لیے	اور-زخموں-سے-تیرے	شفا-دوں-گا-تجھے	فرماتا-ہے	یہوواہ	کیونکہ	
	<a href="#">H5927</a>	<a href="#">H0724</a>		<a href="#">H4347</a>	<a href="#">H7495</a>	<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H3068</a>		

נדחה	קראו	לך	ציון	היא	דרש	אין	לך:	ס
نکالی-ہوئی	پکارتے-ہیں-وہ	تجھے	صبیوں	بے-یہ	ڈھونڈنے-والا	نہیں	اس-کا	
<a href="#">H5080</a>	<a href="#">H7121</a>		<a href="#">H6726</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H1875</a>	<a href="#">H0369</a>		

کی جس دیکھو کو صیون کہ ہے کہا کر دے قرار مردود تجھے نے لوگوں کیونکہ گا، دوں شفا تجھے کر بھر کو زخموں تیرے [میں ہے، فرماتا رب کیونکہ کرتا۔ [نہیں کوئی فکر

18	יָדָה	אָמַר	יְהוָה	הִנְבִּי-	שָׁב	שָׁבוֹת	אָהָלֵי	יַעֲקֹב	וּמִשְׁכְּנֵיהֶם
	یوں	فرماتا-ہے	یہوواہ	دیکھو-میں	لوٹاتا-ہوں	قیدی	خیموں-کے	یعقوب-کے	اور-مسکنوں-پر-اس-کے
	<a href="#">H3541</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H7622</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H3290</a>	<a href="#">H4908</a>

	אָרְחָם	וּנְבִנְתָהּ	עִיר	עַל-	תְּלִיָּה	וְאֶרְמוֹן	עַל-	מִשְׁפָּטָיו	יִשָּׁב:
	رحم-کروں-گا	اور-بنایا-جائے-گا	شہر	پر	ٹیلے-اپنے	اور-محل	پر	جگہ-اپنی	بیٹھے-گا
	<a href="#">H7355</a>	<a href="#">H1129</a>			<a href="#">H8510</a>	<a href="#">H0759</a>		<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H3427</a>

نئے پر کھنڈرات کو یروشلم تب گا۔ کھاؤں ترس پر گھروں کے اسرائیل میں گا، کروں ختم بدنصیبی کی خیموں کے یعقوب میں دیکھو، ہے، فرماتا رب گا۔ جائے کیا کھڑا پر جگہ پرانی کی اُس دوبارہ کو محل اور گا، جائے کیا تعمیر سے سرے

19	וַיֵּצֵא	מִהֶם	תּוֹדָה	וְקוֹל	מִשְׁחָקִים	וְהִרְבִּיתִים	וְלֹא	וּמִזֵּטָיו
	اور-نکلے-گی	ان-سے	حمد	اور-آواز	ہنسنے-والوں-کی	اور-بڑھاؤں-گا-انہیں	اور-نہیں	گھٹیں-گے-وہ
	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H8426</a>		<a href="#">H7832</a>		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4591</a>

	וְהִרְבִּיתִים	וְלֹא	יִצְעָרוּ:
	اور-عزت-دوں-گا-انہیں	اور-نہیں	ذلیل-ہوں-گے-وہ
	<a href="#">H3513</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H6819</a>

مزید بلکہ جائے ہو نہ کم تعداد کی اُن کہ گا دوں دھیان میں اور گی۔ جائیں ہو بلند آوازیں کی والوں منانے خوشی اور گیت کے شکرگزاری وہاں وقت اُس گا۔ دوں بڑھا بہت عزت کی اُن میں بلکہ گا جائے سمجھا نہیں حقیر اُنہیں جائے۔ بڑھ

20	וְהָיוּ	בְּנֵי	כְּקֹדֶם	וְעֲדָתוֹ	לְבָנֵי	תְּבוּן	וּפְקָדָיו	עַל
	اور-ہوں-گے	بیٹے-اس-کے	جیسے-پہلے	اور-جماعت-اس-کی	سامنے-میرے	قائم-ہوگی	اور-سزا-دوں-گا-میں	کو
	<a href="#">H1961</a>			<a href="#">H5712</a>	<a href="#">H6440</a>			

	כָּל-	לְחַצְצֵיוֹ:
	تمام	ظالموں-اس-کے
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3905</a>

ہے کیا ظلم پر اُن نے جتنوں لیکن گی۔ رہے قائم حضور میرے سے مضبوطی جماعت کی اُن اور گے، گزاریں زندگی محفوظ طرح کی زمانے قدیم بچے کے اُن گا۔ دوں سزا میں اُنہیں

21	וְהָיָה	אֲדִירוֹ	מִמֶּנּוּ	וּמִשְׁלָלוֹ	מִמְּקָרְבוֹ	יֵצֵא	וְהִקְרַבְתִּיו
	اور-ہوگا	عظیم-اس-کا	اسی-میں-سے	اور-حاکم-اس-کا	درمیان-سے-اس-کے	نکلے-گا	اور-قریب-لاؤں-گا-میں-اسے
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0117</a>		<a href="#">H4910</a>	<a href="#">H7130</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H7126</a>

	וּנְנִישׁ	אֵלָי	כִּי	מִי	הוּא-	זָה	עָרַב	אֶת-	לְבֹ	לְגִשְׁתִּי	אֵלָי
	اور-آئے-گا-وہ	میرے-پاس	کیونکہ	کون	ہے	یہ	جو-ضمانت-دے	کی	دل-اپنے	آنے-کی	میرے-پاس
	<a href="#">H5066</a>	<a href="#">H0413</a>		<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H6148</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H5066</a>	<a href="#">H0413</a>

	נָא-	יְהוָה:
	فرماتا-ہے	یہوواہ
	<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H3068</a>

گا۔ آئے قریب میرے وہ تو گا لاؤں قریب اپنے اُسے خود میں گا۔ جائے ہو نشین تخت کر اُٹھ سے میں اُن دوبارہ وہ گا، ہو وطن ہم اپنا کا اُن حکمران کا اُن ہوں۔ لایا قریب اپنے خود میں جسے بے سکتا کر جرأت کی آنے قریب میرے کر ڈال میں خطرے جان اپنی وہی صرف ہے، فرماتا رب کیونکہ

22	וְהִייתֶם	לִי	לְעַם	וְאֶנְכִי	אֶהְיֶה	לְכֶם	לְאֱלֹהִים:	ס
	اور-ہو-گے-تم	میرے-لیے	قوم	اور-میں	ہوں-گا	تمہارے-لیے	خدا	-
	<a href="#">H1961</a>			<a href="#">H0595</a>	<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H0430</a>	

گا۔ ہوں خدا تمہارا میں اور گے ہو قوم میری تم وقت اُس

23	וְהָיָה	סַעֲרַת	יְהוָה	חַמָּה	יִצְאָה	סַעֲר	מִתְנוֹרָר	עַל	רֹאשׁ	רְשָׁעִים	יְחֹל:
	دیکھو	طوفان	یہوواہ-کا	غضب	نکلا	آندھی	گھومتی	پر	سر	شریروں-کے	ٹوٹے-گی
	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2534</a>	<a href="#">H3318</a>		<a href="#">H1641</a>				<a href="#">H7563</a>	

ہیں۔ رہے اُتر پر سروں کے بے دینوں جھونکے کے بگولے تیز ہے۔ رہا ہو نازل طرح کی آندھی زبردست غضب کا رب دیکھو،

מְזֻמּוֹת	הַקִּימוֹ	וְעַד-	עֲשֵׂתוֹ	עַד-	יְהוָה	אֶף-	הַרְוֵן	יָשׁוּב	לֹא
منصوبے	نہ-پورا-کرے-وہ	اور-جب-تک	نہ-کرے-وہ	جب-تک	یہوواہ-کا	غضب	جلال	لوٹے-گا	نہیں
<a href="#">H4209</a>		<a href="#">H5704</a>		<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0639</a>	<a href="#">H2740</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H3808</a>
				הַתְּבוּנָה	הַיָּמִים	בְּאַחֲרֵית	לִבּוֹ	דל-اپنے-کے	
				چہ: سمجھو-گے-تم	دنوں	آخری-میں			
				<a href="#">H0995</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H0319</a>			

کی اس تمہیں میں دنوں والے آنے پہنچایا۔ نہیں تک تکمیل کو منصوبوں کے دل اپنے نے اُس تک جب گا ہو نہیں ٹھنڈا تک وقت اُس قہر شدید کا رب اور  
گی۔ آئے سمجھ صاف